

برائے فوری اجراء

## برامپٹن معیشت، انفراسٹرکچر اور دیگر شعبہ جات میں بہتری لانے کے لیے وفاقی حکومت سے اپنا منصفانہ حصہ مانگنے جا رہا ہے

برامپٹن، آن (29 مئی 2019) – برامپٹن سٹی کونسل کے اراکین اہم ضروریات کو پورا کرنے میں معاونت کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے شراکت داریوں اور فنڈنگ کے لیے دلائل دیں گے، بشمول ٹرانزٹ کا انفراسٹرکچر، معاشی ترقیاں اور ماحولیاتی بقاء۔ برامپٹن کے میئر پیٹرک براؤن اور کونسلرز 30 مئی سے 2 جون کے درمیان کیوبک سٹی میں منعقد ہونے والی 2019 اینونل کانفرنس آف کینیڈین میونسپلٹیز میں سٹی کی ضروریات کی جانب توجہ دلائیں گے۔

برامپٹن کینیڈا کا دوسرا تیز ترین رفتار سے بڑھنے والا شہر ہے اور ملک کی نوجوان ترین، متنوع ترین اور انتہائی قابل ملازمت افرادی قوت کا گھر ہے۔ برامپٹن صوبائی اور قومی معیشت میں ایک کلیدی شراکت دار ہے اور سٹی وفاقی حکومت کے سامنے اہم مطالبات لا رہا ہے۔

### سٹی آف برامپٹن کے مطالبات:

- مین اسٹریٹ پر ایک پوری طرح فنڈ یافتہ لائٹ ریل ٹرانزٹ، جو برامپٹن گو اسٹیشن تک جاتی ہو، پر کام شروع کرنے اور مستقبل میں ایک ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن موہیلٹی ہب کے لیے معاونت، جو GTHA سے جڑتی ہو۔
- پیڈلی گرونگ ٹرانزٹ سسٹمز کے لیے پبلک ٹرانزٹ سٹریٹ (PTS) فنڈنگ کے تعین کا ایک مزید منصفانہ طریقہ۔ 2008 - 2018 کے درمیان روم پر سواریوں میں 130 فیصد کا اضافہ ملک میں سب سے زیادہ اضافوں میں سے ایک ہے۔
- سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ انیشیٹیو کے لیے فنڈنگ اور حل پر مرکوز اشتراک کے ساتھ جاری شدہ معاونت
- وفاقی حکومت کی جانب سے گھروں کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے اضافہ شدہ فنڈنگ اور مزید فعال کردار، تاکہ مقامی رہائشوں اور بے گھر افراد کی ضروریات کی مزید جامع سمجھ بوجھ میں معاونت کے لیے حکومتوں کا باہمی موازنہ ہو سکے اور شریک شدہ ڈیٹا بیسز ہوں
- آبادی کی بڑھوتری کو مدنظر رکھ کر فنڈنگ کے تعین کا منصفانہ عمل درآمد، جو مقامی کمیونٹی کی حفاظتی ضروریات کی عکاسی کرتا ہو
- \$20 ملین سے کم قیمت کے پراجیکٹس، مثلاً چھوٹے علاقوں کی بنیاد پر مطالعے، طوفانی پانی کا انتظام، نقل و حمل، درخت لگانا اور ایک انرجی ایکسیلنس ادارے کا قیام (مثلاً انسٹیٹیوٹ فار سسٹین ایبل برامپٹن)، کے لیے ڈزاسٹر مٹیگیشن اینڈ ایڈاپشن فنڈنگ میں اضافہ
- فنڈنگ فراہم کر کے، منظوریوں کے عمل کو ہموار کر کے اور ایک قابل استحکام، مستقبل پر مرکوز کمیونٹی کے ویژن پر کام کرنے کے لیے سٹی کے ساتھ شراکت داری کر کے رور واک پراجیکٹ کو آگے بڑھانے میں مدد دی جائے

### اقتباس

"برامپٹن اپنے انفراسٹرکچر کو حال اور مستقبل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہم کئی کابلیٹ پراجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے وفاق کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میں ملک کے تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے ٹرانزٹ سسٹم کی معاونت اور دیگر چیزوں کے علاوہ سائبر سیکورٹی کے لیے ایک قومی سینٹر کے لیے مستقل فنڈنگ شامل ہے۔ ہم اپنے سامنے موجود بے انتہاء مواقع کو زیر عمل لانے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ ہم مسلسل کامیابی کے لیے آپ کے شراکت دار ہیں۔ اٹیں برامپٹن کے لوگوں کے لیے مل جل کر کام کریں۔"

میئر پیٹرک براؤن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنٹش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)